

5	וַאֲנִי	הָיִיתִי	יָמִינִי	וְהִנֵּה	צִפִּיר־	הָעֵזִים	בָּא	מִן־	הַמְּעֵרָב	עַל־	פְּנֵי	כָּל־
	اور-میں	تھا	سمجھ-رہا	اور-دیکھو	بکرا	بکریوں-کا	آیا	سے	مغرب	پر	رُخ	تمام
	H0589	H1961	H0995	H2009	H6842	H5795	H0935		H4628		H6440	H3605
	הָאָרֶץ	וְאִין	נִנְעָה	בְּאֶרֶץ	וְהַצִּפִּיר	בְּרָן	חֲזוֹת	בֵּין	עֵינָיו:			
	زمین-کی	اور-نہ	چھوٹا-تھا	زمین-کو	اور-بکرے-کا	سینگ	نمایاں	بیچ	اُس-کی-آنکھوں-کے			
	H0776	H0369	H5060	H0776	H6842	H2380	H0996					

چھوٹے کو زمین وہ اور تھا، سینگ زبردست درمیان کے آنکھوں کی اُس دیا۔ دکھائی بکرا ایک بوئے آتے سے مغرب اچانک کہ تھا رہا کر ہی غور پر اُس میں کے کر عبور کو دنیا پوری تھا۔ رہا چل بغیر

6	וַיָּבֵא	עַד־	הָאֵלֹהִים	בְּעַל	הַקְּרָנוֹם	אֲשֶׁר	רְאִיתִי	עֲמֹד	לְפָנַי	הָאֲבֵל	וַיִּרְץ
	اور-آیا	تک	مینڈھے-کے	والے	سینگوں-کے	جسے	میں-نے-دیکھا-تھا	کھڑے	سامنے	نہر-کے	اور-دوڑا
	H0935	H5704		H1167			H7200	H5975	H6440	H0180	H7323
	אֱלֹהִים	בְּחַמַּת	כַּחוֹז:								
	اُس-کی-طرف	غضب-کی	طاقت-سے								
	H0413	H2534									

بڑا۔ ٹوٹ پر اُس وہ کر آ میں طیش بڑے تھا۔ دیکھا کھڑا کنارے کے نہر نے میں جو گیا پہنچ پاس کے مینڈھے اُس والے سینگوں دو وہ

7	וְרֵאִיתִיו	וּמִנִּיעַ	אֲצִל	הָאֵלֹהִים	וַיְתַמְרֶמֶר	אֱלֹהִים	נִידָה	אֶת־	הָאֵלֹהִים	
	اور-میں-نے-دیکھا-اُسے	پہنچتے-بوئے	پاس	مینڈھے-کے	اور-غصے-میں-آیا	اُس-پر	اور-مارا	کو	مینڈھے-کو	
	H7200	H5060	H0681		H4843	H0413	H5221	H0853		
	וַיִּשְׁבֹּר	אֶת־	שְׁתֵּי	קְרָנוֹ	וְלֹא־	הָיָה	כַּח	בְּאֵלֹהִים	לְעֹמֹד	לְפָנָיו
	اور-ٹوڑ-دیں	کو	دونوں	اُس-کی-سینگیں	اور-نہیں	تھی	طاقت	مینڈھے-میں	کھڑے-بوئے-کی	اُس-کے-سامنے
	H7665	H0853	H8147		H3808	H1961		H5975	H6440	
	וַיִּשְׁלִיכֵהוּ	אֶרְצָה	וַיִּרְמֹסֵהוּ	וְלֹא־	הָיָה	מִצִּיל	לְאֵלֹהִים	מִיָּדוֹ:		
	اور-پٹک-دیا-اُسے	زمین-پر	اور-روندا-اُسے	اور-نہیں	تھا	بچانے-والا	مینڈھے-کے-لیے	اُس-کے-ہاتھ-سے		
	H7993	H0776	H7429	H3808	H1961	H5337		H3027		

حالت یہ بس اس گئے۔ ہو ٹکڑے ٹکڑے سینگ دونوں کے مینڈھے کہ مارا ہوں اُسے نے اُس میں غصے بڑے گیا۔ ٹکرا سے پہلو کے مینڈھے وہ کہ دیکھا نے میں بچائے۔ سے قابو کے بکرے کو مینڈھے جو تھا نہیں کوئی دیا۔ کچل تالے پاؤں کر پٹخ پر زمین اُسے نے بکرے سکا۔ کر نہ مقابلہ کا اُس مینڈھا میں

8	וַצִּפִּיר	הָעֵזִים	הַגְּדִיל	עַד־	מְאֹד	וּכְעֶזְמוֹ	נִשְׁבְּרָה	הַקְּרָן	הַגְּדוּלָּה	וְהַעֲלָנָה
	اور-بکرا	بکریوں-کا	بڑا-ہوا	تک	بہت	اور-جب-طاقتور-ہوا	ٹوٹ-گیا	سینگ	بڑا	اور-نکلے
	H6842	H5795	H1431	H5704	H3966		H7665			H5927
	חֲזוֹת	אֲרָבַע	תַּחֲתָיָה	לְאֲרָבַע	רוּחוֹת	הַשָּׁמַיִם:				
	نمایاں	چار	اُس-کی-جگہ	چار	ہواؤں	آسمان-کی				
	H2380	H0702	H8478	H0702	H7307	H8064				

آسمان رُخ کا جن آئے نکل سینگ زبردست چار مزید جگہ کی اُس اور گیا، ٹوٹ سینگ بڑا کا اُس ہی پر عروج کے طاقت لیکن گیا۔ ہو ور طاقت نہایت بکرا تھا۔ طرف کی سمتوں چار کی

9	וּמִן־	הָאֲחַת	מִהֶם	יָצָא	קְרָן־	אֶחָת	מִצְעִירָה	וַתִּגְדַּל־	יָתֵר	אֶל־	הַגְּבֹב
	اور-سے	ایک-میں-سے	اُن	نکلا	سینگ	ایک	چھوٹا	اور-بڑا-ہوا	بہت	طرف	جنوب-کی
		H0259	H1992	H3318		H0259	H4704	H1431		H0413	H5045
	וְאֶל־	הַמִּזְרָח	וְאֶל־								
	اور-طرف	مشرق-کی	اور-طرف								
	H0413	H4217	H0413								

بڑھتے بڑھتے طرف کی اسرائیل ملک صورت خوب اور مشرق جنوب، وہ لیکن تھا۔ چھوٹا میں ابتدا جو آیا نکل سینگ اور ایک سے میں سینگ ایک کے اُن گیا۔ ہو ور طاقت بہت

10	וְתַגְדֵּל	עַד-	צָבָא	הַשָּׁמַיִם	וְתַפֵּל	אַרְצָה	מִן-	הַצָּבָא	וּמִן-	הַפּוֹכְבִּים
	اور-بڑا-ہوا	تک	لشکر	آسمان-کے	اور-گرا-دیا	زمین-پر	سے	لشکر	اور-سے	ستاروں
	H1431	H5704		H8064	H5307	H0776				H3556

וְתַרְמִסֶּם:

اور-روندا-اُنہیں
[H7429](#)

دیا۔ کچل تلے پاؤں کر پھینک پر زمین کو ستاروں اور فوجیوں کچھ نے اُس وہاں گیا۔ بڑھ تک فوج آسمانی وہ پھر

11	וְעַד	שָׂר-	הַצָּבָא	הַגְּדִיל	וּמִמֶּנּוּ	הַרִים	(הוֹרֵם)	הַתְּמִיד	וְהַשְּׁלֵף	מִכּוֹן
	اور-تک	سردار	لشکر-کے	بڑا-ہوا	اور-اُس-سے	اُٹھایا-گیا	اُٹھایا-گیا	دائمی-قربانی	اور-ڈالی-گئی	جگہ
	H5704	H8269		H1431		H7311	H8548	H7993	H4349	

מִקְדָּשׁוֹ:

اُس-کے-مقدس-کی
[H4720](#)

سینگ ساتھ ساتھ تھیں۔ جاتی کی پیش روزانہ اُسے جو دیا کر محروم سے قربانیوں اُن اُسے اور گیا پہنچ بھی تک کمانڈر کے فوج آسمانی بڑھتے بڑھتے وہ دیا۔ کر تباہ کو مقام کے مقدس کے اُس نے

12	וְצָבָא	תַּנְתָּן	עַל-	הַתְּמִיד	בְּפֶשַׁע	וְהַשְּׁלֵף	אֶמֶת	אַרְצָה	וְעִשְׂתָּה
	اور-لشکر	دیا-جائے-گا	خلاف	دائمی-قربانی-کے	سرکشی-میں	اور-پھینکے-گی	سچائی-کو	زمین-پر	اور-کرے-گی
	H5414			H8548	H6588	H7993	H0571	H0776	

וְהִצְלִיחָה:

اور-کامیاب-ہو-گی

رہا۔ کامیاب وہ میں اُس کیا نے اُس بھی کچھ جو دیا۔ پنخ پر زمین کو سچائی نے سینگ اور ہوئی، بے حرمتی کی قربانیوں کی روزانہ سے فوج کی اُس

13	וְאַשְׁמֶעָה	אֶחָד-	קָדוֹשׁ	מִדְבָּר	וַיֹּאמֶר	אֶחָד	קָדוֹשׁ	לְפָלְמוֹנִי	הַמִּדְבָּר	עַד-
	اور-میں-نے-سنا	ایک	مقدس-کو	بولتے-ہوئے	اور-کہا	ایک	مقدس-نے	فلاں-سے	بولنے-والے-سے	تک
	H8085	H0259	H6918	H1696	H0559	H0259	H6918	H6422	H1696	H5704

مִתִּי	הַחֲזוֹן	הַתְּמִיד	וְהַפֶּשַׁע	שְׁלֹם	תָּת	וְקָדֵשׁ	וְצָבָא	מִרְמָס:
کب	رویا	دائمی-قربانی	اور-سرکشی	ویران-کرنے-والی	دینے-کا	اور-مقدس	اور-لشکر-کو	پامال
H4970	H2377	H8548	H6588	H8074	H5414	H6944		H4823

کچھ جو یعنی گے، رہیں قائم تک کب حالات گئے کئے پیش میں رویا [اس پوچھا، نے ایک سنا۔ ہوئے کرتے بات میں آپس کو بستییوں مقدس دو نے میں پھر ہے؟] رہا جا کیا پامال کو مقدس کہ بات یہ اور بے حرمتی کن تباہ یہ ہے، رہا ہو ساتھ کے قربانیوں کی روزانہ

14	וַיֹּאמֶר	אֵלָיו	עַד	עֵרֵב	בֶּקֶר	אֲלָפִים	וּשְׁלֹשׁ	מֵאוֹת	וְנִצְדָק	קָדֵשׁ:
	اور-کہا	مجھ-سے	تک	شام	صبح	دو-ہزار	اور-تین	سو	اور-پاک-کیا-جائے-گا	مقدس
	H0559	H0413	H5704	H6153	H1242	H0505	H7969	H3967	H6663	H6944

کیا مقدس و مخصوص سے سرے نئے کو مقدس بعد کے اس گے۔ رہیں ہی یوں تک صبحوں اور شاموں 2,300 حالات بتایا، مجھے میں جواب نے دوسرے گا۔] جائے

15	וַיְהִי	בְרֵאשִׁית	אֲנִי	דְּנִיאל	אֶת-	הַחֲזוֹן	וְאַבְקָשָׁה	בִּינָה	וְהִנֵּה	עֲלִמֵד
	اور-ہوا	جب-دیکھا-میں-نے	میں	دانی-ایل	کو	رویا	اور-میں-نے-تلاش-کی	سمجھ	اور-دیکھو	کھڑا
	H1961	H7200	H0589	H1840	H0853	H2377	H1245	H0998	H2009	H5975

לְנִדְרֵי
میرے-سامنے
صورت-میں
نبرد-کی
[H5048](#)
[H4758](#)
[H1397](#)

تھا۔ رہا لگ جیسا مرد جو ہوا کھڑا سامنے میرے کوئی کہ تھا رہا ہی کر کوشش کی سمجھنے کو واقعات ہوئے دیکھے میں

16	וְאֶשְׁמַע	קוֹל-	אָדָם	בֵּין	אוֹלָי	וַיִּקְרָא	וַיֹּאמֶר	וַיְבַרְאֵל	הָבֵן	לְהִלֵּל	אֶת-
	اور-میں-نے-سُنا	آواز	انسان-کی	بیچ	اولائی-کے	اور-پکارا	اور-کہا	جبرائیل	سمجھا	اس-کو	کو
	H8085		H0120	H0996	H0195	H7121	H0559	H1403	H0995	H1975	H0853

הַמְרִיאָה:

רויَا

[H4758](#)

دے۔ بتا مطلب کا رویا کو آدمی اس جبرائیل، اے کہا، نے جس سنی آواز کی شخص کسی سے طرف کی اولائی نہر نے میں ساتھ ساتھ

17	וַיִּבֹא	אֶצְלוֹ	עִמָּדִי	וַיִּבְכְּאוּ	וַיְבַעְתִּי	וַאֲפֹלָה	עַל-	פָּנָי	וַיֹּאמֶר
	اور-آیا	پاس	میرے-کھڑے-ہونے-کے	اور-جب-آیا	ذر-گیا-میں	اور-گر-پڑا-میں	پر	منہ-کے-بل	اور-کہا
	H0935	H0681	H5975	H0935	H1204	H5307		H6440	H0559

مجھ-سے سمجھ اے-ابن آدم کیونکہ وقت-کے-لیے آخر رويا-ہے

[H2377](#)

[H7093](#)

[H6256](#)

[H0120](#)

[H0995](#)

[H0413](#)

ہے۔ سے زمانے آخری تعلق کا رویا اس کہ لے جان زاد، آدم اے بولا، وہ لیکن گیا۔ گر بل کے منہ کر گھبرا سخت میں تو آیا قریب میرے فرشتہ

18	וַיִּבְדְּבֶרְוּ	עִמָּי	גְהֵרִי-נִינְד-מִי	וַיִּבְכְּאוּ	עַל-	פָּנָי	אֶרְצָה	וַיִּנְעַר-	כִּי
	اور-جب-بولا	مجھ-سے	گہری-نیند-میں-گر-پڑا-میں	اور-جب-آیا	پر	منہ-کے-بل	زمین-پر	اور-چھو	مجھے
	H1696		H7290	H7290		H6440	H0776	H5060	

اور-کھڑا-کیا-مجھے

[H5975](#)

کیا۔ کھڑا پر پاؤں کر چھو مجھے نے فرشتے اب رہا۔ پڑا بل کے منہ میں حالت مدبوش میں تو تھا رہا کر بات سے مجھ وہ جب

19	וַיֹּאמֶר	הַנְּנִי	מוֹדִיעַךְ	אֶת	אֲשֶׁר-	יְהִיָה	בְּאַחֲרִית	הַזְּעַם	כִּי	לְמוֹעֵד
	اور-کہا	دیکھ-میں	بتاتا-ہوں-تجھے	کو	جو	ہو-گا	آخر-میں	غضب-کے	کیونکہ	مقررہ-وقت-پر
	H0559	H2009	H3045	H0853		H1961	H0319	H2195		H4150

קָזַז:

انتہا

[H7093](#)

ہے۔ سے زمانے آخری تعلق کا رویا کیونکہ گا۔ ہو نازل غضب کا اللہ جب گا آئے پیش کچھ کیا میں زمانے آخری اُس کہ ہوں دیتا سمجھا تجھے میں بولا، وہ

20	הָאֵיל	אֲשֶׁר-	רְאִיתָ	בְּעַל	הַקְּרָנִים	מִלְכֵי	מָדִי	וּפָרְס:
	مینڈھا	جسے	تو-نے-دیکھا	والا	سینگوں-کا	بادشاہ	مادی	اور-فارس-کے
			H7200	H1167		H4428	H4074	H6539

ہے۔ کرتا نمائندگی کی بادشاہوں کے فارس اور مادی وہ دیکھا نے تو کو مینڈھے جس کے سینگوں دو

21	וַיַּחַצְפִּיר	הַשְּׁעִיר	מִלְכָּד	יָוֶן	וַיִּהְיוּ	הַגְּדוֹלָה	אֲשֶׁר	בֵּין-	עֵינָיו	הוּא
	اور-بکرا	بالوں-والا	بادشاہ	یونان-کا	اور-سینگ	بڑا	جو	بیچ	اُس-کی-آنکھوں-کے	وہی
	H6842	H4428	H3120		H0996					H1931

הַמֶּלֶךְ:

بادشاہ

[H7223](#)

[H4428](#)

ہے۔ بادشاہ پہلا کا شہنشاہی یونانی سینگ بڑا لگا درمیان کے آنکھوں کی اُس ہے۔ بادشاہ کا یونان بکرا کا بالوں لمبے

22	וְהַנְשִׁירָתָה	וְהַעֲמִדְנָה	אַרְבַּע	תַּחֲתֶיהָ	אַרְבַּע	מַלְכוּת	מִגְוִי	יַעֲמִדְנָה	וְלֹא
	اور-جو-ٹونا	اور-کھڑے-بوئے	چار	اُس-کی-جگہ	چار	سلطنتیں	قوم-سے	کھڑی-ہوں-گی	لیکن-نہ
	H7665	H5975	H0702	H8478	H0702	H4438		H5975	H3808

بَدْحו:
اُس-کی-طاقت-سے

کی چاروں لیکن گی۔ اُنہیں نکل اور چار سے بادشاہی پہلی کہ بے مطلب کا اس اُٹے۔ نکل سینگ چار جگہ کی اُس اور گیا ٹوٹ سینگ یہ کہ دیکھا نہ تو گی۔ ہو کم نسبت کی پہلی طاقت

23	וּבְאַחֲרֵיתָהּ	מַלְכוּתָהֶם	כְּהָתָם	הַפְּשָׁעִים	יַעֲמִד	מֶלֶךְ	עַז-	פָּנִים
	اور-آخر-میں	اُن-کی-سلطنت-کے	جب-پورے-ہوں-گے	سرکشوں-کے	اُٹھے-گا	بادشاہ	سخت	چہرے-والا
	H0319	H4438	H8552	H6586	H5975	H4428	H5794	H6440

وּמַגִּין
اور-سمجھنے-والا
معے
[H2420](#)

گا۔ بیٹھے پر تخت بادشاہ ماہر کا سازش اور گستاخ ایک وقت اُس گی۔ ہو گئی پہنچ تک عروج بدکرداری کی بے وفاؤں میں ایام آخری کے حکومت کی اُن

24	וְעַצֵּם	כַּחַז	וְלֹא	בְּדָחוּ	וְנִפְלְאוֹת	יִשְׁחִית	וְהַצְלִיחַ	וְעִשָּׂה
	اور-بڑھے-گی	اُس-کی-طاقت	لیکن-نہ	اپنی-طاقت-سے	اور-حیرت-انگیز	تباہ-کرے-گا	اور-کامیاب-ہو-گا	اور-کرے-گا
			H3808		H6381	H7843		

וְהִשְׁחִית
اور-تباہ-کرے-گا
طاقتوروں-کو
اور-قوم-کو
مقدسین-کی
[H6099](#)

ہو کامیاب میں اُس گا کرے بھی کچھ جو اور گا، بنے باعث کا بربادی انگیز حیرت وہ گی۔ ہو نہیں طاقت اپنی کی اُس یہ لیکن گا، جائے ہو ور طاقت بہت وہ گا۔ کرے تباہ کو قوم مقدس اور زور آوروں وہ گا۔

25	וְעַל-	שָׂקָלוֹ	וְהַצְלִיחַ	מִרְמָה	בְּיָדוֹ	וּבְלִבָּבוֹ	יִגְדִיל	וּבְשָׁלוֹה
	اور-بذریعہ	اپنی-چالاکی-کے	کامیاب-کرے-گا	فریب-کو	اپنے-ہاتھ-میں	اور-اپنے-دل-میں	بڑا-ہو-گا	اور-سکون-میں
		H7922		H4820	H3027	H3824	H1431	H7962

יִשְׁחִית
تباہ-کرے-گا
بہتوں-کو
اور-خلاف
سردار
سرداروں-کے
کھڑا-ہو-گا
لیکن-بغیر
یَد
ہاتھ
یִשְׁבֵּר:
ٹوٹ-جائے-گا
[H7843](#)

اُتارے گھاٹ کے موت اُنہیں وہ تو گے سمجھیں محفوظ کو آپ اپنے لوگ جب گا۔ جائے ہو متکبر وہ تب گا۔ رہے کامیاب وہ ذریعے کے فریب اور سمجھ اپنی نہیں۔ سے ہاتھ انسانی البتہ گا، جائے ہو پاش پاش وہ لیکن گا۔ اُٹھے بھی خلاف کے حکمرانوں کے حکمرانوں وہ آخر کار گا۔

26	וּמְרֹאָה	הָעֶרֶב	וְהַבְּקָר	אֲשֶׁר	בְּאֵמֶת	הוּא	וְאַתָּה	סֵתֶם	הַחֲזוֹן	כִּי
	اور-رویا	شام-کی	اور-صبح-کی	جو	کہی-گئی	سچ	اور-ٹو	بند-کر	رویا-کو	کیونکہ
	H4758	H6153	H1242		H0559	H1931			H2377	

לְיָמִים
دنوں-کے-لیے
بہت
[H3117](#)

نہیں پیش ابھی واقعات یہ کیونکہ رکھ، پوشیدہ اُسے الحال فی لیکن ہے۔ سچی وہ ہوئی ظاہر پر تجھ رویا جو میں بارے کے صبحوں اور شاموں دانیال، اے ہی۔ بعد کے جانے گزر کے دنوں بہت بلکہ گئے اُنہیں

הַמֶּלֶךְ	מְלָאכֶת	אֶת-	וְאֶעֱשֶׂה	וְאֶקְוִים	יָמִים	וְנִקְלִיתִי	נִהְיִיתִי	דָּנִיָּאל	וְאֲנִי
بادشاہ-کا	کام	کو	اور-کیا	اور-اُٹھا	دنوں	اور-بیمار-رہا	بیمار-ہو-گیا	دانی-ایل	اور-میں
H4428	H4399	H0853			H3117		H1961	H1840	H0589
			פ	מִכֵּן:	וְאִין	הַמְרִאָה	עַל-	וְאֶשְׁתַּוְּמֶם	
			[]	سمجھ-سکا	اور-کوئی-نہ	رویا	پر	اور-حیران-رہا	
				H0995	H0369	H4758		H8074	

سخت سے رویا میں لگا۔ کرنے ادا فرائض اپنے دوبارہ میں خدمت کی بادشاہ اور اُٹھا میں پھر رہا۔ بیمار تک دنوں کئی کر ہو نڈھال دانیال میں، بعد کے اس
سکے۔ بتا مطلب کا اُس مجھے جو تھا نہیں کوئی اور تھا، پریشان